



پس اہل علم اور تمام مومن مرد اور عورتوں پر واجب ہے کہ وہ خود اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی تاکید کریں، کیونکہ یہ فعل انتہائی خطرناک، بڑا ہی نقصان دہ اور انجام کے لحاظ سے بے حد بُرا ہے۔

اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس بُرائی سے عافیت میں رکھے، اور ہم سب کو سیدھے راستہ پر چلنے کی توفیق دے، بے شک وہ سننے والا، قبول کرنے والا ہے۔

ہذا ما عنہدی واللہ اعلم بالصواب

ارکانِ اسلام سے متعلق اہم فتاویٰ

صفحہ: 53

محدث فتویٰ